



اس کینیڈا ڈے پر حفاظت سے خوشی منائیں!

برامپٹن، آن (24 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو 1 جولائی کو کینیڈا ڈے پر آتش بازی کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رہنے کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔

کینیڈا ڈے سال کے ان چار مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی وکٹوریہ ڈے، دیوالی اور نیو اینرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔

چھوٹی حد والی آتش بازی وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دور جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ یہ تقریباً برامپٹن ٹرانزٹ بس یا باسکٹ بال کی رنگ کی اونچائی تک جاتی ہیں۔

دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازی برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سڑکوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں استعمال کرنے کی اجازت کی حد صرف رات 11 بجے تک ہے۔

نجی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- پانی کا ایک برتن یا بوز لائین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھری ہو۔
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جلائیں یا پکڑیں نہیں۔
- آتش بازی کو کبھی بھی دوسروں پر نہ پھینکیں یا رخ نہ موڑیں۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔

آگ سے تحفظ اور اس بارے میں ضمنی قوانین کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/fireworks ملاحظہ کریں۔